

# ڈسٹرکٹ پبلک سکول اینڈ کالج دیپالپور

تعطیلات موسم گرما کا کام / جائزہ / سرگرمیاں

پہلی میعاد

تعلیمی سیشن ۲۰۲۵ء تا ۲۰۲۳ء

مضمون: اردو

جماعت: ششم



والد کا نام: \_\_\_\_\_

نام طالب علم / طالبہ: \_\_\_\_\_

سیکشن: \_\_\_\_\_

رول نمبر: \_\_\_\_\_

حاصل کردہ نمبر: \_\_\_\_\_

کل نمبر: \_\_\_\_\_

## بلاک سلیبس سیشن ۲۰۲۴-۲۰۲۵ء

کتاب: اردو - ۷ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور جماعت ششم امتیازی گرامر و انشاپردازی

اردو (الف):

سبق نمبر: ۱۰ تا ۱۱ "حمد تا اتفاق اور نا اتفاقی" فرہنگ والے الفاظ معانی۔

مرکزی خیال: حمد، اتفاق اور نا اتفاقی

خلاصہ جات: محنت میں عظمت، یوم دفاع پاکستان۔

اردو (ب) امتیازی اردو گرامر

☆ قواعد و گرامر:

لفظ کی اقسام، کلمے کی اقسام، اسم کی اقسام بلحاظ معنی و بناوٹ

☆ مذکر مؤنث: صفحہ نمبر (۳۶ تا ۴۷)

☆ واحد جمع: صفحہ نمبر (۳۷ تا ۳۹)

☆ خطوط: والد کے نام خط (کامیابی کی اطلاع اور رقم منگوانے کے لیے)

ماموں کے نام خط (تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے)

☆ مضامین: میری روزانہ زندگی، میری پسندیدہ کتاب



تاریخ:

دن:



سوال: درج ذیل الفاظ کے معانی لکھیے۔

الفاظ	معانی	الفاظ	معانی	الفاظ	معانی
آشکارا	ظاہر ہونا	برِ حَق	سچ پر ہونا، حق پر		
بر	زمین، خشکی	جلایا	تازگی بخشنا		
بحر	سمندر	خالق	پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات		
دارِ فانی	دُنیا، ناپائیدار مقام	سنوارنا	دُرس ت کرنا، سلیقے سے لگانا		
طاعت	عبادت، بندگی	عالم	دُنیا، کائنات		
فلک	آسمان	کمی بیشی	کم یا زیادہ ہونا		
معبود	جس کی عبادت کی جائے	یارا	جُرا ت، مجال		

مرکزی خیال: اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو قوت اور طاقت ملتی ہے۔ وہ پوری کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے۔ کوئی اس کی مرضی کے بغیر اس کی قدرت میں دخل نہیں دے سکتا۔ اس فانی دُنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اگر اچھے اعمال زیادہ ہوئے تو آخرت میں بڑے درجے ملیں گے۔

مرکزی خیال: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

تاریخ:

دن:

کلمہ، کلمہ کی اقسام

وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے۔ جیسے بات، کتاب، خط وغیرہ کلمہ کی تین اقسام ہیں۔

اسم، فعل، حرف

اسم: اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام ہو۔ جیسے قلم، میدان، وحید وغیرہ

فعل: وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا مانے کے لحاظ سے پایا جائے۔ جیسے توڑے، پکایا، پیاد وغیرہ

حرف: وہ کلمہ جو نہ تو کسی کا نام ہو اور نہ کسی کام کو ظاہر کرے یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے اور اکیلا کچھ معنی نہیں دیتا۔ جیسے پر، سے، میں وغیرہ

## عملی کام

دیئے گئے پیرا گراف میں سے اسم، فعل، حرف الگ الگ کیجیے۔

میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے۔ اس میں بہت سے پودے اور درخت ہیں۔ بہار کے موسم میں کئی رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ ان کو خوشبو ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ شام کو باغ آدمیوں، عورتوں اور بچوں سے بھر جاتا ہے۔ لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں۔ بچے باغ میں دوڑتے ہیں۔ اب وہ یہاں ہیں اور دوسرے لمحے وہ باغ کے دوسرے کونے میں ہیں۔ ہر شام میں بھی باغ میں سیر کے لئے جاتا ہوں۔ بہت سے مالی باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔

اسم: \_\_\_\_\_

فعل: \_\_\_\_\_

حرف: \_\_\_\_\_

دن:

تاریخ:

## نعت

سوال: درج ذیل الفاظ کے معانی لکھیے۔

الفاظ	معانی	الفاظ	معانی	الفاظ	معانی
انسانیت	شرافت، تہذیب	بزم جہاں	دُنیا کی محفل		
پیام حق	اللہ تعالیٰ کا پیغام، سچا پیغام	شمع ہدایت	راہ نمائی کی شمع		
عقنبی	آخرت، دوسرا جہاں	غافل	بے خبر، لاعلم		
محشر	قیامت	ہر سو	ہر طرف		



سوال: درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔

الفاظ	جملے	جملے
انسانیت	حضور ﷺ نے ہمیں انسانیت کا رستہ دکھایا۔	
عقلمندی	ہمیں اپنی عقلمندی کی فکر کرنی چاہیے۔	
سنوارنا	ہم سب کو مل کر اپنے ملک کو سنوارنا چاہیے۔	
محنت	محنت میں عظمت ہے۔	
غافل	ہمیں اپنے دین سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔	
خالق	اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔	

سوال: مندرجہ ذیل مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے جملوں میں سے متضاد الفاظ کی پہچان کریں۔

متضاد	الفاظ	جملے
بڑے	چھوٹے	طیب ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتا ہے۔
سکھ	دکھ	زندگی میں دکھ سکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔
تیز	آہستہ	آہستہ نہ چلو بلکہ تیز قدم اٹھاؤ تاکہ وقت سے منزل پر پہنچ سکو۔
ٹھنڈا	گرم	گرم کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے۔

دن:

اُسوۂ حسنہ اور رواداری

تاریخ:

الفاظ	معانی	معانی	الفاظ	معانی	معانی
حلم	بردباری، نرم دلی	حلیف	عہد کرنے والا، ساتھی		
عفو و درگزر	خطا اور قصور معاف کرنے والا	فروغ ملا	ترقی اور عروج حاصل کیا		
کامل	مکمل، پورا	مساویانہ	برابر کا		
مصائب	مصیبتیں، تکلیفیں	نوید	خوش خبری		
ملامت کرنا	بڑا بھلا کہنا	ہم آہنگی	مطابقت، ایک دوسرے کے خیال سے متفق ہونا		
یک جا کرنا	اکٹھا کرنا				

مختصر جواب دیں۔

سوال: تکالیف، مسائل اور اذیتوں پر صبر کرنا کیا کہلاتا ہے؟

جواب: تکالیف، مسائل اور اذیتوں پر صبر کرنا تحمل اور رواداری کہلاتا ہے۔

جواب:-

سوال: حضور خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کی زندگی کس چیز کا نمونہ ہے؟  
جواب: حضور خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ کی زندگی برداشت اور رواداری کا کامل نمونہ ہے۔

جواب:-

سوال: نبی کریم خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے فتح مکہ کے موقع پر کفار کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟  
جواب: نبی کریم خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے فتح مکہ کے موقع پر کفار کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا۔ انھیں بغیر کسی بدلے کے معاف فرمایا۔

جواب:-

سوال: فتح مکہ کے بعد کون سر جھکائے کھڑے تھے؟  
جواب: فتح مکہ کے بعد مکہ کے بڑے بڑے سردار سر جھکائے کھڑے تھے۔

جواب:-

دن:

تاریخ:

سوال: مدینہ میں آپ خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے کیسا معاشرہ قائم کیا؟  
جواب: مدینہ میں آپ خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ نے ایسا معاشرہ قائم کیا جہاں مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا جاتا۔

جواب:-

درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔

الفاظ	جملے	جملے
اسوہ حسنہ	حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔	
اخوت	صحابہ اکرامؓ نے اخوت کی بہترین مثال قائم کی۔	
خندہ پیشانی	ہمیں مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔	
رواداری	اسلام ہمیں رواداری اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔	
ناگوار	احمد کی سخت بات بزرگ کو ناگوار گزری۔	



---

---

---

---

تاریخ:

دن:

درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔

سوال: حضور خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ روزِ مَرَّةِ کے کون سے کام اپنے ہاتھ سے کرتے؟

جواب: حضور خاتم النبیین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ اپنے چھوٹے موٹے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے۔ جیسے اپنے جوتے خود مرمت کرتے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے اور بکری کا دودھ دھ لیتے۔

جواب:-----

سوال: پاکستان کی آزادی میں کن لوگوں کی محنت شامل ہے؟

جواب: پاکستان کی آزادی میں ہمارے آباؤ اجداد اور قائدین کی محنت شامل ہے۔ مثلاً: قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور سر سید احمد خان۔

جواب:-----

سوال: کسان کس طرح فصل کو گل و گلزار بناتا ہے؟

جواب: کسان دن رات محنت اور مشقت کے بعد فصل کو گل و گلزار کرتا ہے۔ اگر وہ کدال اور کئی لے کر کھیتوں میں کام نہ کرے تو اسے غلہ اور اناج حاصل نہیں ہوگا۔

جواب:-----

سوال: فرد اور قوم کی ترقی کے لیے محنت کرنا کیوں ضروری ہے؟

جواب: فرد اور قوم کی ترقی کے لیے محنت اس لیے ضروری ہے کہ محنت کے بغیر آج تک کوئی بھی کامیابی اور ترقی حاصل نہیں کر پاتا۔ جب افراد اور قومیں محنت کرتی ہیں تو ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔



جواب:

-----  
-----

تاریخ:

دن:

سوال: قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پاکستانی قوم کو کون سا سنہری اصول بتایا تھا؟

جواب: قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پاکستانی قوم کو محنت کا سنہری اصول بتایا تھا کہ اگر ہم اس دنیا میں مضبوط اور طاقت ور قوم بننا چاہتے ہیں تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہو گا۔

جواب:

-----  
-----

سوال: درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔

الفاظ	جملے	جملے
خندق	غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔	
محنت	محنت میں عظمت ہے۔	
ناممکن	محنت سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔	
تباہ و برباد	جو قومیں محنت نہیں کرتیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔	
ترقی یافتہ	اللہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بننے کی توفیق دے آمین۔	

سوال: خالی جگہ پُر کریں۔ (درسی کتاب پر حل کریں۔) جواب: (الف) سنگِ میل (ب) محنت (ج) ہاتھ (د) سفر (ہ) سخت محنت

تاریخ:

دن:

اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ

بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی درج ذیل تین اقسام ہیں۔ اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد

اسم مصدر: وہ اسم جو خود کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر اس سے بہت سے الفاظ بنائے جاسکتے ہوں "مصدر" کہلاتا ہے۔

جیسے: کھانا، پینا، چلنا، سونا وغیرہ۔

اسم مشتق: وہ اسم جو مصدر سے کسی خاص قاعدے کے مطابق بنایا جائے، مشتق کہلاتا ہے۔ جیسے: کھانا سے وغیرہ کھانے والا، دیکھنا سے دیکھنے والا

، چلنا سے چلن، چلنا سے چال وغیرہ۔

اسم جامد: وہ اسم جو نہ کسی کلمے سے بنا ہو نہ اس سے کوئی کلمہ بن سکے، جامد کہلاتا ہے۔ جیسے: آم، میز، چھت، کرسی وغیرہ

### عملی کام

دئے گئے پیرا گراف میں سے اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد تلاش کیجیے۔

احمد اور اکبر دو دوست تھے۔ احمد بہت چست اور ہوشیار تھا۔ اسے پڑھنا، لکھنا، کھیلنا، کودنا بہت پسند تھا۔ جبکہ اکبر بہت سست لڑکا تھا۔ اس کا مشغلہ ہر وقت سونا تھا۔ احمد کو کھانے پینے اور کھیلنے کو دینے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا بھی شوق تھا۔ اس بات کو لے کے اکبر کے دل میں احمد کے لئے بہت جلن تھی۔ وہ اکثر احمد سے لڑائی بھی کرتا۔ پھر ایک دن اکبر کے استاد نے اسے سمجھایا کہ لڑائی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم ہر وقت بستر پہ لیٹے چھت اور پیکھے کو گھورتے رہتے ہو۔ تم بھی احمد کی طرح محنتی بنو تاکہ کامیاب ہو۔

اسم مصدر: \_\_\_\_\_

اسم مشتق: \_\_\_\_\_

اسم جامد: \_\_\_\_\_

دن:

تاریخ:

### چڑیا کی نصیحت

الفاظ	معانی	معانی	الفاظ	معانی	معانی
باتونی	بہت باتیں بنانے والا	چونکنا	حیران ہو جانا۔ جاگنا		
خواہش	تمنا	خیالی پلاؤ پکانا	ایسی باتیں سوچنا جو پوری نہ ہو سکیں		
ڈاڑھ گیلی نہ ہونا	کھانے کے لیے کم ہونا	عالم	کیفیت۔ حالت		
لذیذ	مزے دار	مالا مال ہونا	خوش حال ہونا		
مبتلا ہونا	دھنسا ہونا	ہاتھ ملنا	افسوس کرنا۔ پچھتانا		

مختصر جواب دیں۔

جواب: چڑیا مار حد درجہ باتونی، بے وقوف اور لالچی تھا۔

سوال: "چڑیا مار" کیسا شخص تھا؟

جواب:

سوال: "چڑی مار" نے جال کیوں لگایا؟ جواب: چڑی مار نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال لگایا۔

جواب:

سوال: "چڑی مار" نے کتنی چڑیاں پکڑی؟ جواب: چڑی مار نے صرف ایک چڑیا پکڑی۔

جواب:

سوال: چڑیا نے "چڑی مار" کو کس بات کا لالچ دیا؟ جواب: چڑیا نے چڑی مار کو تین نصیحتیں کرنے اور اس کے فائدے کا لالچ دیا۔

جواب:

دن:

تاریخ:

سوال: "چڑی مار" کس بات پر بچھتا تھا؟

جواب: چڑی مار چڑیا کو چھوڑ کر بہت بچھتا تھا کیونکہ اُسے بعد میں معلوم ہوا کہ اُس کے پیٹ میں قیمتی موتی تھا۔

جواب:

سوال درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔

الفاظ	جملے	جملے
لاٹھی	چڑی مار ایک لاٹھی نسان تھا۔	
خیالی پلاؤ پکاتا	علی ہر وقت خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔	
سرپیٹ لینا	اگر یہ بات درست ہے تو یقیناً ہمیں اپنا سرپیٹ لینا چاہیے۔	
پریشانی	آپ حوصلہ رکھیں اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔	
نصیحت	ہمیں بڑوں کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔	

سوال: خالی جگہ پُر کریں۔ (درسی کتاب پر حل کریں۔) جواب: (الف) بصرہ (ب) چڑیا (ج) اُداس (د) فائدے (ه) بات



تاریخ:

دن:

جائزہ



کل نمبر: ۱۰ /

سوال نمبر: 1 مختصر جواب دیجیے۔ ۶ /

(1) سوال: "چڑی مار" کیسا شخص تھا؟

جواب:-----  
-----

(2) سوال: "چڑی مار" نے جال کیوں لگایا؟

جواب:-----  
-----

(3) سوال: چڑیا نے "چڑی مار" کو کس بات کا لالچ دیا؟

جواب:-----  
-----

سوال نمبر: ۲ الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ ۴ /

لالچی-----

خیالی پلاؤ پکانا-----

سرپیٹ لینا-----

نصیحت-----





دن:

واحد جمع

تاریخ:

درج ذیل واحد کے جمع تحریر کیجیے۔

واحد	جمع	واحد	جمع	واحد	جمع
ادب	آداب	تعصب	تعصبات	جمع	جمع
استاد	اساتذہ	تدابیر	تدابیر		
ادیب	ادبا	تصویر	تصاویر		
امیر	امرا	تاجر	تجار		
آفت	آفات	توقع	توقعات		
اشارہ	اشارات	شمر (پھل)	اثمار		
آلہ	آلات	جسم	اجسام		
اثر	آثار	جوہر	جوہر		
اسم	اسما	جزیرہ	جزائر		
امر	امور	جاہل	جہلا		
آیت	آیات	جن	جنات		
اصلاح	اصلاحات	جنس	اجناس		
اشتہار	اشتہارات	جذبہ	جذبات		
الم	آلام	جز	اجزا		
باغ	باغات	جرم	جرائم		
برکت	برکات	حادثہ	حادثات		
بدن	ابدان	حاکم	حکام		
بیت	ابیات	حکم	احکام		
باب	ابواب	حکیم	حکما		
بخار	بخارات	حق	حقوق		
تجربہ	تجربات	حبیب	احباب		
تکلیف	مکالیف	حدیث	احادیث		


تقریر	تقاریر	حرف	حروف
تحفہ	تحائف	حد	حدود
تجویز	تجاویز	حاجت	حاجات
ترکیب	تراکیب	حاضر	حاضرین
احسان	احسانات	حکایت	حکایات
حاج	حجاج	حیوان	حیوانات
حال	احوال	خط	خطوط
خطرہ	خطرات	خاتون	خواتین
خبر	اخبار	خلیفہ	خلفا
خصلت	خصائل	خاص	خواص
خلقت	خلائق	خادم	خدام
خلق	اخلاق	خزانہ	خزائن
دفتر	دفاتر	دیہہ	دیہات
ذرہ	ذرات	دوا	ادویہ
درجہ	درجات	ذریعہ	ذرائع
ذہن	اذہان	ذکر	اذکار
ذات	ذوات	دلیل	دلائل
ذخیرہ	ذخائر	ذقن	ذقان
رسالہ	رسائل	رییس	ووسا
رباعی	رباعیات	رفیق	رفقا
رکن	ارکان	رقم	رقوم
روح	ارواح	رقعہ	رقعات
زمانہ	ازمنہ	رسم	رسوم
روایت	روایات	زار	زارین





تاریخ:

دن:



کل نمبر: ۲۰

سوال نمبر 1: والد کے نام خط تحریر کیجیے۔

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

سوال نمبر 2: واحد کے جمع لکھیے۔

جمع	واحد


تاریخ:

دن:

### علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نوجوان نسل

الفاظ	معانی	معانی	الفاظ	معانی	معانی
آمادہ	تیار، راضی	تاب ناک	روشن	معانی	
توسط	ذریعہ، وسیلہ	خودی	ذات، شعور، شعورِ ذات، خود آگاہی	معانی	
رنجیدہ	غم گین، اُداس، دکھی	صفات	خوبیاں	معانی	
قیادت	رہ نمائی	کابل	سستی	معانی	
گردوں	آسمان، فلک	متحرک	چلتا پھرتا	معانی	

سوالات کے مختصر جواب دیں۔

سوال: علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں کن کے لیے فکری تربیت کا پیغام کو جو ہے؟

جواب: علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں مردوں، عورتوں، جوانوں، بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے فکری تربیت کا عملی پیغام موجود ہے۔

جواب: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

سوال: شاہین کی صفات سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا؟

جواب: شاہین کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے نوجوانوں کو خودداری، بے غرضی، آزادی، بلند پروازی اور اعلیٰ ظرفی کا پیغام دیا۔

جواب:

سوال: شاعر مشرق نوجوانوں میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے؟

جواب: شاعر مشرق نوجوانوں میں وہ تمام خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے جو ہمارے بزرگوں میں موجود تھیں۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان حقیقی معنوں میں اسلام کے پیروکار ہوں۔

جواب:

تاریخ:

دن:

سوال: نظم "ہمدردی" سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟

جواب: اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔

جواب:

سوال: علامہ محمد اقبال رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کی نوجوانوں کے لیے لکھی گئی چند نظموں کے نام تحریر کریں۔

جواب: علامہ محمد اقبال رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کی نوجوانوں کے لیے لکھی گئی چند نظموں کے نام درج ذیل ہیں "ہمدردی، شاہین، بچے کی دُعا، شکوہ، جوابِ شکوہ، مسجدِ قرطبہ، شمع اور شاعر، جاوید کے نام، اور ایک نوجوان کے نام۔

جواب:

سوال: خالی جگہ پُر کریں۔ (درسی کتاب پر حل کریں۔)

جواب: (الف) شاعر (ب) القاب (ج) پیغام (د) فکری تربیت (ه) سرگرمیوں (و) مسلمانوں

سوال: درج ذیل الفاظ کے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معانی واضح ہو جائیں۔

الفاظ	جملے	جملے
فکری تربیت	علامہ محمد اقبال اپنے کلام سے نوجوانوں کی فکری تربیت کرنا چاہتے تھے۔	
مقصدیت	علامہ اقبال اپنی قوم میں مقصدیت اور لگن جیسی صفات دیکھنا چاہتے تھے۔	
خودی	خودی کی پہچان کے بغیر کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔	
مستقبل	ہمارا مستقبل روشن ہے۔	
بیدار	میں صبح سویرے بیدار ہوتا ہوں۔	

## (اردوب)

## اسم کی اقسام (معنی کے لحاظ سے)

اسم: کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے علی، کتاب، مسجد وغیرہ

اسم کی درج ذیل دو اقسام ہیں۔ اسم معرفہ ، اسم نکرہ

اسم معرفہ: وہ اسم جو کسی شخص جگہ یا چیز کے خاص نام کو ظاہر کرے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔

جیسے: علی، قرآن مجید، فیصل مسجد وغیرہ

اسم نکرہ: وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے عام نام کو ظاہر کرے، اسم نکرہ کہلاتا ہے۔

جیسے: لڑکا، کتاب، مسجد وغیرہ

## عملی کام:

احمد ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ اس کے تین بھائی ہیں۔ محسن، اکبر اور علی۔ وہ تینوں عادات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ احمد صبح سویرے اٹھتا نماز پڑھتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا، جبکہ باقی بھائی سارا دن کھیلتے کودتے رہتے۔ ان کے گھر میں بہت سے جانور بھی تھے۔ وہ سب ان کا بہت خیال رکھتے۔

دیئے گئے پیرا گراف میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ تلاش کیجیے۔

اسم معرفہ: \_\_\_\_\_

اسم نکرہ: \_\_\_\_\_



تاریخ:

دن:

جائزہ کل نمبر: ۱۰

۱۔ اسم کی معنی کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں؟ ۲/

جواب:-----

۲۔ اسم معرفہ کی تعریف مثالوں سے کیجیے۔ ۴/

جواب:-----

۳۔ اسم نکرہ کی تعریف مثالوں سے کیجیے۔ ۴/

جواب:-----

تاریخ:

دن:

ذرا فون کر لوں؟

الفاظ	معانی	معانی	الفاظ	معانی	معانی
ادیب	نظم نگار کاماہر	انشا پرداز	نثر نگار، ادبی مضامین لکھنے والا		
باواز بلند	بلند آواز	بھڑک کر	غضب ناک ہو کر		
پٹی سے لگ بیٹھنا	پلنگ کے پاس بیٹھنا	پھٹ پیچر	گٹھیا، کم تر		
تشخیص	مرض کی پہچان، شناخت	تعزیت	مرنے والے کے گھر والوں سے اظہارِ ہم دردی		
چاند نیاں	سفید چادر یا دردی	چرم	چمڑا، کھال		
چھول داریاں	چھوٹے خیمے	حیات تازہ			
دُ رشتی سے	سختی سے، غصے سے	دریغ	رنج، افسوس		
دم لینے کو	سانس لینے کو	دوادارو	علاج معالجہ		

دُنر سیٹ	کھانا کھانے کے برتنوں کا سیٹ	راہ و رسم	جان پہچان، تعلق داری
سالن گری	جس پر سالن گرا ہوا ہو	سال نامہ	کسی جریدے کا سالانہ شائع ہونے والا خاص شمارہ
عارضہ	مرض	سر رہنا	پچھے پڑے رہنا، چھٹے رہنا
علیک سلیک	سلام دُعا، جان پہچان	قبلہ	کلمہ تعظیمی
گاڑھی چھننا	گہری دوستی ہونا	مُجربات	تجربہ کی ہوئی دوائیں، آزمائے ہوئے حکیموں کے نسخے
مرچنٹ	تاجر، تجارت یا کاروبار کرنے والا	مزان پُرسی کرنا	عیادت کرنا
ناساز	خراب	اخلاقِ کریمانہ	شفقت لیے ہوئے طور طریقے، پُر شفقت سلوک
نگارشات	ادبی تحریریں	نا قابلِ تلافی	جس کی تلافی ممکن نہ ہو
وحشت	دیوانگی، جنون	ہم محلہ	محلے دار، ایک ہی محلہ کے

سوالات کے مختصر جواب دیں۔

سوال: مصنف کو کب پتا چلا کہ وہ محلے میں بہت مقبول ہیں؟

جواب: مصنف کو اُس وقت پتا چلا کہ وہ محلے میں بہت مقبول ہے جب وہ بیمار ہو کر صاحبِ فراش ہوئے۔

جواب:

-----

تاریخ:

دن:

سوال: شیخ نبی بخش کہاں فون کرنا چاہتے تھے؟ کیا مصنف نے انھیں روکا؟

جواب: شیخ نبی بخش اپنی دکان پر فون کرنا چاہتے تھے۔ مصنف نے انھیں نہیں روکا بلکہ بخوشی اجازت دی۔

جواب:

-----

سوال: میر باقر کے مطابق ادب کو کس طرح ناقابلِ تلافی نقصان ہو سکتا تھا؟

جواب: میر باقر کے مطابق مصنف ابنِ انشا کو کوئی ہرج مہرج ہو گیا تو ادب کو ناقابلِ تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔

جواب:

-----

سوال: پروفیسر کریم بخش کا پیشہ کیا تھا؟

جواب: پروفیسر کریم بخش پروفیسر بننے سے پہلے خانساں تھے۔

جواب:

-----

سوال: پروفیسر کریم بخش کے مطابق مصنف کو کیا بیماری تھی؟ انہوں نے کیا علاج تجویز کیا؟  
جواب: پروفیسر کریم بخش کے مطابق مصنف کے جسم میں شکر کی کمی ہے اور گلہ خراب ہے۔ انہوں نے اپنے مجربات میں سے ایک چیز بھیجے کا وعدہ کیا جو مینڈک کی چربی، گندھک اور لال بیگ کے انڈوں سے بنتی ہے اور اُلو کے مغز کے ساتھ نہار منہ کھانی پڑتی ہے۔

جواب:

-----

-----

سوال: درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔

الفاظ	جملے	جملے
سیاح	ہر سال لاکھوں سیاح مری کی سیر کرنے جاتے ہیں۔	
تاریخی	لاہور میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں۔	
عجرت	عقل مند شخص دوسروں سے عجرت حاصل کرتا ہے۔	
گردوغبار	آج ہوا میں بہت گردوغبار ہے۔	
کامیابی	محنت کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔	

سوال: خالی جگہ پُر کریں۔ (درسی کتاب پر حل کریں۔)

جواب: (الف) لڈو (ب) ایک (ج) مشاعروں، غزلوں (د) رانگ نمبر (ہ) چاند نیاں

دن:

تاریخ:

مذکر مونث


درج ذیل مذکر کی مونث تحریر کیجیے۔

مذکر	مونث	مذکر	مونث	مذکر	مونث
مرد	عورت	میاں	بیوی		
خاوند-شوہر	بیوی	راجا	رانی		
نواب	بیگم	بیگ	بیگم		
خان	خانم	باپ	ماں		
صاحب	میم	بھائی	بھانج		
خالو	خالہ	سُسر	ساس		

داماد	بہو	ماموں	ممائی
خواجہ	خاتون	غلام	لونڈی
بوڑھا	بڑھیا	چچا	چچی
نانا	نانی	دادا	دادی
بیٹا	بیٹی	پوتا	پوتی
نواسا	نواسی	پھوپا	پھوپی
بھانجا	بھانجی	بندہ	بندی
شہزادہ	شہزادی	سنار	سناری
چمار	چماری	لوہار	لوہاری
کھار	کھاری	جولاہا	جولاہی
دولہا	دلہن	حاجی	حاجن
گوالہ	گوالن	بھنگی	بھنگن
دھوبی	دھوبن	یہودی	یہودن
مالی	مالن	جوگی	جوگن
سقا	سقن	بنگالی	بنگالن
بھٹیارا	بھٹیاریان	فرنگی	فرنگن
درزی	درزن	مولوی	مولون
گویا	گانن	بڑھتی	بڑھانن
چودھری	چودھرائن	قصائی	قصائن
کنجڑا	کنجڑن	نائی	نائن
پڑوسی	پڑوسن	ملا	ملانی
شیخ	شیخانن	پنڈت	پنڈتانی
مغل	مغلانی	مہتر	مہترانی
سید	سیدانی	جیٹھ	جیٹھانی
دیور	دیورانی	ہندو	ہندوانی
استاد	استانی	ڈوم	ڈومنی
ڈاکٹر	ڈاکٹرائی	جادوگر	جادوگرنی
نٹ	نٹنی	فقیر	فقیرنی



ماموں کے نام خط (تاریخی مقامات کی سیر کے لیے)



امتحانی مرکز

۱۱۔ جولائی ۲۰۲۳ء

پیارے ماموں جان!

آداب! آپ کا نوازش نامہ ملا۔ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش و سلامت رکھے۔ آمین  
میں یہ خط آپ کو ایک پُرانا وعدہ یاد دلانے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہو گا، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر میں پانچویں  
جماعت کے امتحان پاس ہوا تو آپ مجھے لاہور کی سیر کرائیں گے اور وہاں کی تمام تاریخی عمارات دکھائیں گے۔  
اب چوں کہ میں نے آپ کی دُعاؤں سے پانچویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا ہے اور اللہ کے فضل سے جماعت میں  
دوسرے درجے پر آیا ہوں۔ اس لیے آپ بھی اپنا وعدہ پورا فرمائیں اور مجھے جلد از جلد لاہور لے چلیں کیوں کہ مجھے تاریخی مقامات  
دیکھنے کا بہت شوق ہے۔

امید ہے آپ خط کا جواب واپسی ڈاک تحریر فرمائیں گے۔ ممانی جان کی خدمت میں سلام۔

والسلام

آپ کا بھانجا

ا۔ب۔ج

خود لکھیے:

---



---



---

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal lines (top, middle, and bottom) for writing practice.



تاریخ:

یومِ دفاعِ پاکستان

دن:

الفاظ	معانی	معانی	الفاظ	معانی	معانی
بے انتہا	بہت زیادہ	پیش قدمی	آگے بڑھنا		
تاریخ رقم کرنا	تاریخ لکھنا، کارنامہ انجام دینا	سن، سن دھن قربان کرنا	سب کچھ لٹا دینا		
سپوت	نیک لائق بیٹا	سیسہ پلائی دیوار	بہت مضبوط دیوار		
شجاعت	بہادری	قابلض ہونا	قبضہ کرنا		
منہ کی کھانا	تکست کھانا	ہمہ وقت	ہر وقت		
یلغار	حملہ	ولولہ	جوش		

سوالات کے مختصر جواب دیں۔

سوال: ہم ۶ ستمبر کو کون سا دن مناتے ہیں؟

جواب: علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں مردوں، عورتوں، جوانوں، بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے فکری تربیت کا عملی پیغام موجود ہے۔

جواب:

سوال: ہم یومِ دفاع کیوں مناتے ہیں؟

جواب: اس دن ہماری بہادر افواج نے دشمن کو عبثت ناک شکست دی۔ ہم اپنی افواج کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر ہم بھی اپنے ملک کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔

جواب:

سوال: پاکستانی فوج نے ۱۹۶۵ء کی جنگ کیسے جیتی؟

جواب: پاک فوج نے بہادری اور شجاعت کا ناقابل یقین مظاہرہ کیا۔ وہ دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن گئی۔ اور اُس نے اللہ پر پختہ ایمان اور وطن سے محبت کے جذبے سے یہ جنگ جیت لی۔

جواب:

سوال: میجر راجا عزیز بھٹی کو نشانِ حیدر کیوں دیا گیا؟

جواب: میجر راجا عزیز بھٹی نے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان دی۔ بہادری کا بے مثل مظاہرہ کرنے پر انھیں نشانِ حیدر دیا گیا۔

جواب:

تاریخ:

دن:

سوال: سکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے کیا ریکارڈ قائم کیا؟

جواب: سکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے ایک منٹ کے عرصے میں اپنے طیارے سے دشمن کے پانچ ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔

جواب:-----

سوال: بلوگوں نے وطن اور فوج سے محبت کا اظہار کس طرح کیا؟

جواب: بلوگوں نے وطن اور فوج کی مدد کے لیے اشیائے خوردنی، پیسوں، زیورات اور دیگر اشیاء کے ڈھیر لگا دیے۔ لاتعداد پاکستانی جوان خون عطیہ کرنے ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔

جواب:-----

سوال: درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں

الفاظ	جملے
وطن	وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔
حفاظت	وطن کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔
پیش قدمی	مسلمانوں نے کفار کی پیش قدمی کو روک رکھا۔
ناقابل یقین	محمود عالم نے دشمن کے ۵ طیارے گرا کر ناقابل یقین ریکارڈ قائم کیا۔
ایمان	صفائی نصف ایمان ہے۔

خلاصہ: وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ یہ جذبہ ہم میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ۶ ستمبر ۱۹۶۵ء کو رات کی تاریکی میں بھارت نے ہم پر حملہ کیا۔ وہ سمجھا پاکستانی فوج غافل ہوگی اور ہم زیادہ علاقے پر قابض ہو جائیں گے۔ ہماری بہادر فوج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستانی عوام نے بھی پاک فوج کا بھرپور ساتھ دیا۔ صدر پاکستان ایوب خان کی ولولہ انگیز تقریر نے پورے ملک کو متحد کر دیا اور پاک فوج کے حوصلے بلند ہو گئے۔ میجر عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے رات اور دن دشمن کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ بھارتی فوج نے سیال کوٹ میں پچاس ہزار فوجیوں اور پانچ سو ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا۔ مگر پاک فوج نے یہ علاقہ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ اس جنگ میں پاک فضائیہ نے وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا حیران ہوئی۔ محمد محمود عالم نے ایک منٹ میں دشمن کے پانچ طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ بن دیا۔ ہم ۶ ستمبر کو یوم دفاع اور ۶ ستمبر کو یوم فضائیہ مناتے ہیں۔ اس دن سکولوں میں تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جس میں ۱۹۶۵ء کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے اور اس بات کا عہد بھی کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔

خلاصہ:-----

-----

-----



سوال: درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔

جملے	جملے	الفاظ
	مل کر رہنے کا نتیجہ نیک ہوتا ہے۔	نتیجہ
	زندگی کا اصل لطف اللہ کی عبادت میں ہے۔	لطف
	محنت کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔	کامیابی
	مثل مشہور ہے "ایک اکیلا دو گیارہ"	مثل
	کراچی میں کل بڑا طوفان آیا۔	طوفان

دن:

تاریخ:



کل نمبر: ۱۰

جائزہ

۱۔ اسم کی معنی کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں؟ ۲/

جواب:

۲۔ اسم معرفہ کی تعریف مثالوں سے کیجیے۔ ۴/

جواب:

۳۔ اسم نکرہ کی تعریف مثالوں سے کیجیے۔ ۴/





## 2- میری پسندیدہ کتاب

یوں تو میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں لیکن مجھے سب کتابوں میں سے قرآن مجید سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اُس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد ﷺ پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔

قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں۔ ان میں سے کچھ سورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی۔ جو سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی سورتیں کہا جاتا ہے اور جو سورتیں مدینے میں نازل ہوئیں انہیں مدنی سورتیں کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح کی دوسری باتیں بتائی گئی ہیں۔

قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ”سورۃ البقرۃ“ ہے اور سب سے چھوٹی سورت ”سورۃ الکوثر“ ہے۔ قرآن مجید کو با وضو ہو کر پڑھنا چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔

قرآن مجید ایک ہی دفعہ میں نہیں نازل ہوا بلکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قریب قریب 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا۔ اس کے ایک حرف کو پڑھنے سے دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید میں کل چھ ہزار چھ صد چھیا سٹھ آیات ہیں۔ ان میں سب سے بڑی آیت ”آیت الکرسی“ ہے۔

قرآن مجید میں قریب قریب سات سو بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ اس کے مطالب و معانی پر غور کریں۔ اُن کو سمجھیں اور پھر اُن پر عمل کریں۔

حدیث شریف ہے

”تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین) ،



خود لکھیے اور یاد کیجیے:

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

